

## FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	تلی جانے والی چیز کا تقریباً کتنے فیصد کنار اڈوبنا چاہیے	A. آدھا کنارا B. تین چوتھائی C. دو تہائی D. ایک تہائی
2	پاکستان میں کچاس سے کھڑا بنانے کے سب سے زیادہ کارخانے کس جگہ ہیں	A. شیخوپورہ B. کراچی C. خانیوال D. پشاور
3	حرارت کس کی اکائی ہوتے ہیں	A. وٹامن B. کام کی C. نشاستہ کی D. توانائی کی
4	گڑ یا میٹر راڈ کس کا بنا ہوتا ہے	A. ٹشپسے کا B. لکڑی یا پلاسٹک کا C. لوہے کا D. ستیل کا
5	اونی کھڑا کس جانور کے کھال سے حاصل کیا جاتا ہے	A. بکرے کی B. اونٹ کی C. بھیڑوں کی D. گائے کی
6	بماری دانتوں اور ہڈیوں کی نشوونما اور شکست وریخت کے لیے بہت ضروری ہے	A. کیلشیم B. سلفر C. نمکیات D. ایوٹین
7	کھڑوں کی منصوبہ بندی اپنے ملک اور شہر کی کس کے مطابق ہونی چاہیے	A. آب و ہوا B. ماحول C. موسم D. محل وقوع
8	ہم سوت حاصل کرتے ہیں	A. کچاس کے پودے سے B. ریشم کے کھڑے سے C. جانوروں کی کھال سے D. لینن کے پودے سے
9	زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کے بعد کس کی ضرورت ہوتی ہے	A. روشنی کی B. آکسیجن کی C. غذا کی D. حرارت کی
10	حرارت کو کون سی مقدار پانی کے درجہ حرارت کو ایک سینٹی گریڈ تک بڑھادیتی ہے	A. ایک کلو گرام B. چار کلو گرام C. آٹھ کلو گرام D. دس کلو گرام
11	ابتدا میں غذائی گروہ کی تعداد میں کتنے بنائے گئے تھے	A. تین B. پانچ C. گیارہ D. سترہ
12	کون سی غذا صرف مزے کے لیے کھائی جاتی ہے	A. مٹھائی B. پن C. شکر D. حلوا
13	خریداری کے عمل کا انحصار کس پر ہوتا ہے	A. غربت پر B. مالی استطاعت پر C. دولت پر D. وقت پر
14	تندرست انسان کو روزانہ کتنے حراروں کی ضرورت ہوتی ہے	A. 2400 B. 1200 C. 2700 D. 3100
15	مخفف ہے US RDA	A. U.S. Recommended Daily allowance B. U.S. Russian Daily allowance C. U.S American Daily Allowance

		D. کوئی نہیں.
16	ڈرافٹن ہمیشہ بنائی جاتی ہے	A. ایک بتا تین B. ایک بتا چار C. ایک بتا پانچ D. ایک بتا چھ
17	کاربوہائیڈریٹ میں کون سی غذائیں شامل ہیں	A. نشاستہ اور مٹھاس والی B. دالیں C. وٹامن بی والی D. گوشت، سبزیوں
18	کپڑے کیسے ہونے چاہیے	A. لباس موقع محل اور موسم کے مطابق ہو B. لباس زیادہ چوڑا نہ ہو C. لباس ٹیزاٹن نما ہو D. کوئی نہیں.
19	لینن جس سے تیار ہوتی ہے پودے کو کہتے ہیں	A. روز پلانٹ B. للی پلانٹ C. فلکس پلانٹ D. کوئی نہیں.
20	پروٹین کا کردار ہمارے جسم میں کس طرح کا ہوتا ہے	A. مٹی B. ریت C. سیمینٹ D. پٹی